



سوال

(387) بچا کی مٹی کی بھائی کے ساتھ رضاعت

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرے بچا کی ایک مٹی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن معلوم ہوا ہے کہ اس نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ملکر دودھ پیا ہے اور پانچ رضاعت سے زیادہ پیا ہے اس بارے میں کیا حکم ہے یہ میرے لئے حلال ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر مذکورہ لڑکی نے آپ کی والدہ کا پانچ یا اس سے زیادہ رضاعت پر مشتمل دو سال کی عمر کے اندر دودھ پیا ہے تو پھر وہ آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی طرف سے آپ کے تمام بھائیوں کی بہن ہے بشرطیکہ اس کے دودھ پینے کے وقت آپ کی والدہ آپ کے باپ کے ساتھ ہو اور اگر وہ اس وقت آپ کے باپ کے علاوہ کسی اور شوہر کے پاس تھی تو یہ ماں کی طرف سے آپ کی رضاعی بہن ہوگی نیز اس کے تمام شوہروں کی اولاد کو بھی بہن ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں محرمات کے بیان میں فرمایا ہے:

وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ مَن رَضَعْتُم مِّن الرِّضَاعَةِ ... سورۃ النساء ۲۳

”اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔“

اور نبی اکرمؐ نے فرمایا:

((محرم من الرضاۃ ما محرم من النسب)) (صحیح البخاری)

”رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔“

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتوى
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

كتاب الرضاع : جلد 3 صفحہ 360

محدث فتویٰ